

برائے فوری اجراء

نئی درجہ بندیوں کے مطابق برامپٹن کو بطور گلوبل لیڈر اور سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین جگہ ہونے کے اعزاز سے نوازا گیا ہے

برامپٹن، آن (13 جون 2019) – فنانشل ٹائمز (یو کے) کے ایک ڈویژن ایف ڈی آئی انٹیلیجنس (fDi Intelligence) کے کل کے اعلان کے مطابق برامپٹن کو فیوچر 2019/20 کے لیے امریکہ کے درمیانے سائز کے چوٹی کے پہلے 10 شہروں میں رکھا گیا ہے۔

برامپٹن کو مربوط ہونے کے زمرے میں پہلے درجہ پر جبکہ دوستانہ کاروباری شہر ہونے کے زمرے میں 10 نمبر پر رکھا گیا ہے جس سے یہ بطور مجموعی اٹھویں نمبر پر ہے۔ برامپٹن کی یہ درجہ بندی امریکہ کے 218 شہروں کے لحاظ سے کی گئی ہے۔

مورخہ 29 مئی کو سٹی آف برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے عالمگیر سطح پر معاشی روابط قائم کر کے [برامپٹن میں ملازمتوں اور ترقی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مرحلہ بہ مرحلہ منصوبہ](#) کی تفصیلات سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ برامپٹن مواقع کا شہر ہے۔

ایف ڈی آئی انٹیلیجنس کی جانب برامپٹن کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ان درجہ بندیوں کی ہر دو سال کے بعد تجدید کی جاتی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے برامپٹن کو دوستانہ کاروباری ماہول، مستقبل کے شہر، انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی جیسے زمروں میں مسلسل پہلے اور چوٹی کے درجوں پر رکھا جاتا رہا ہے۔ مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات [ان لائن](#) طور پر دستیاب ہے۔

اقتباسات

“یہ ایوارڈ برامپٹن کے لیے دنیا کا ایک صف اول کا شہر ہونے اور عالمگیر کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہونے کے حوالے سے اس کی حیثیت کی توثیق کرتے ہیں۔ ایسے اثاثے بنانے پر ہماری توجہ مرکوز ہونا جو ہمارے شہر میں سرمایہ کاری اور سرمایہ سازی جیسی خوبیوں کو مزید دلکش بناتے ہیں، سرمایہ کار کمیونٹی میں ہماری حیثیت کو مسابقتی بنانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔”

- میئر پیٹرک براؤن

“یہ اعلان ہماری اس نئی حکمت عملی کے عین مطابق ہے جس کے مطابق ہم گلوبل مارکیٹ میں اپنی جانب رغبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے تباہی مفید ثابت ہو سکتی ہے جب ہم برامپٹن کو کاروباری اداروں کے لیے ایک مسابقتی اور قابل رغبت جگہ بنائیں گے۔”

- ریجنل کونسلر گرہریٹ سنگھ ڈھلون، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca